

# تفسیر القرآن جلد دوم

میں

کتابت کی اغلاط کی نشاندہی اور تصحیح

صفحہ نمبر	سطر نمبر	غلط	صحیح
۷	۲	جَاءَهُمْ	جَاءَهُمْ هُنَا صَحیح بنائیں۔
۲۶	آخری سطر تفسیر	مَلَائِكَةٍ	مَلَائِكَةٍ لَا پَر دوزبرہ دوزبرہ کاٹ دی
۵۲	۳	امام یوحنیف	امام یوحنیف
۵۹	۱	بِالْبَأْسَاءِ	بِالْبَأْسَاءِ لے پر جزم بنائیں
۶۸	۲	أَمَّا	أَمَّا م پر شد اور زبرہ بنائیں
"	۱۱	أَنْجُمٍ	أَنْجُمٍ الف پر تہ بنائیں
۷۰	۱۰	مَنْ	مَنْ ن پر جزم بنائیں
۷۹	تفسیر میں سطر ۶	غیر بندہ بن کر رہے	غیر کا بندہ بن کر رہے۔ غیر کے آگے "کا"
۸۱	آخری سطر	اریح	تاریخ
۸۹	تفسیر میں سطر ۱۳	لا تخذ سے نہیں دیتے	لا تخذ سے جانے نہیں دیتے۔
۹۲	تفسیر میں سطر ۹	یرو و ا	ایک واؤ زائد ہے کاٹ دیں
۱۱۲	۳	تَكُنْ مِنْ	تَكُنْ مِنْ هیم پر شد بنائیں
۱۱۵	۲	وَيَسْبَحُونَ	وَيَسْبَحُونَ ب کے نیچے زبرہ بنائیں
۱۳۰	تفسیر میں سطر ۱۱	ایک ہی ایک مرتبہ	دوسرا ایک کاٹ دیں
۱۳۷	۲	الصُّدُورِ	الصُّدُورِ ص پر سے لفظ کاٹ دیں۔
۱۵۱	۶	بِأَيِّ	بِأَيِّ الف پر کھڑی زبرہ بنائیں۔

صفحہ نمبر	سطر نمبر	غلط	صحیح
۱۵۹	۱	عَزِيزٌ	عَزِيزٌ ذكے نیچے زیر
۱۸۳	۳	وَرِضْوَانٍ	وَرِضْوَانٍ فون کے نیچے دو زیر
۲۱۳	۸	ان کے ان کے	دو بار ایک "ان کے" کاٹ دیں
۲۹۵	۲	عَنْ	عَنْ الف کاٹ دیں۔
۳۰۰	۲	عَلَيْكُمْ	ع پر سے لفظ کاٹ دیں۔
۳۱۴	۲	وَالْاٰرْضِ	وَالْاٰرْضِ مِنْ پر نہ ہر کی بجائے زیر
۳۱۶	۱	لِلدِّيْنِ	لِلدِّيْنِ دال کے نیچے زیر
۳۲۶	۳	وَاَجْرٌ	وَاَجْرٌ واؤ پر شدا اور زیر
۳۲۸	تفسیر میں سطر ۱۶	خود تعنیف کیا	ایک "خود" کاٹ دیں۔
۳۳۵	۵	اِنِّیْ	اِنِّیْ نون کے نیچے زیر ڈالیں
۳۴۴	۱	اِنِّیْ	اِنِّیْ نون کے نیچے زیر ڈالیں۔
۳۴۸	۱	مُسْتَقِيْمٍ	مُسْتَقِيْمٍ ی پر جزم ڈالیں۔
"	۵	خَحَدٌ وَا	خَحَدٌ وَا ج کے نیچے نقطہ بنائیں۔
۳۵۸	۴	مَوْعِدُهُمْ	مَوْعِدُهُمْ دال پر پیش کی بجائے زیر
۳۶۹	۱	فِيْهَا	فِيْهَا ی پر جزم بنائیں
۳۸۳	۳	لَعَلَّكُمْ	لَعَلَّكُمْ ع پر نہ بنائیں
۳۸۸	۳	يَّبْكُوْنَ	يَّبْكُوْنَ ک پر نہ کی بجائے پیش
"	۵	وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ	وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ ل پر نہ کی بجائے پیش
۳۹۱	۱	نَتَّخِذُهَا	نَتَّخِذُهَا ت پر شدا اور زیر
۴۱۴	۴		سطر کے آخر میں رکوع کا نشان
۴۱۵	۴	لَعَلَّهُمْ	لَعَلَّهُمْ ہا پر پیش بنائیں
۴۲۰	۱	وَلَنَا	وَلَنَا لنا کو انا بنائیں
۴۲۵	۵	عَلَيْنَا	عَلَيْنَا ن کا نقطہ بنائیں

صفحہ نمبر	سطر نمبر	غلط	صحیح
۲۲۹	۲	إِنِّي أَعْلَمُ	إِنِّي أَعْلَمُ ی پر مد میم پر پیش بنائیں
۲۳۳	۳	الْعَلِيمِ	الْعَلِيمِ ل پر جزم
۲۳۷	۳	الْقُرَى	الْقُرَى ل پر جزم ق پر پیش بنائیں
۲۳۸	ترجمہ کی آخری سطر	والوں کے ہدایت	والوں کے لیے ہدایت - "لیے" بڑھا دیں
۲۴۲	۲	بُطَّءِ بَطْوَى	بُطَّءِ بَطْوَى کو
۲۴۷	۳	تَغِيضٍ	تَغِيضٍ ص پر پیش بنائیں
۲۷۸	۲	مِنْ مَاءٍ	مِنْ مَاءٍ کے میم پر شد اور زبر
۲۷۹	۲	كَسَبُوا	كَسَبُوا س کے نیچے کھڑی زیر کاٹ دیں۔
۵۰۵	تفسیر میں سطر ۸	خَشِيَّةٌ	خَشِيَّةٌ ت پر سے ایک زبر کاٹ دیں۔
۵۰۸	۲	وَعْيُونَ	وَعْيُونَ ن کے نیچے دو زیر ڈالیں۔
۵۱۷	۱	بِه	بِه ل کے نیچے کھڑی زیر بنائیں۔
۵۳۷	تفسیر میں سطر ۱۲	ہونا ہوتا ہے	ہوتا ہے - ایک "ہوتا" کاٹ دیں۔
۵۴۸	۱	بِه	بِه ل کے نیچے کھڑی زیر بنائیں
۵۵۰	۲	بَطْوَنِهِ	بَطْوَنِهِ و پر جزم بنائیں۔
۵۷۶	۱	قُلُوبِهِمْ	قُلُوبِهِمْ و پر ایک جزم زائد ہے۔
۵۸۱	تفسیر میں سطر ۱۲	ایک ہی لکڑی نہ لانا	ایک ہی لکڑی سے نہ لانا - لکڑی کے آگے "سے"
۵۸۵	۱	بَنِي إِسْرَائِيلَ	بَنِي إِسْرَائِيلَ ی پر مد الف کے نیچے زیر
۶۰۲	۳	أَجْرًا	أَجْرًا الف پر زبر بنائیں۔
۶۱۲	۱	خَبِيرًا	خَبِيرًا میم کو لفظ کے آخر میں لائیں۔
۶۱۳	۱	خِطًا	خِطًا ہمزہ بنائیں
۶۲۰	۱	أَدْبَارِهِمْ	أَدْبَارِهِمْ ر کے نیچے زیر بنائیں
۶۸۳	۱۲ پہلی جانب	شریعت الہی کو قبول نہ کرنا اور خود اپنا قانون -	"اپنا" کاٹ دیں